

ضروری ہدایات برائے درخواست گزار

کیا آپ نے درج ذیل ہدایات پڑھ کر سمجھ لی ہیں۔				ہدایات	نمبر
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	درج ذیل ہدایات کو غور سے پڑھ لیں اور اس پر عمل کریں۔	
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	اسکالرشپ فارم کو بنا کچھ لکھے فوٹو کاپی کروائیں۔	1.
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	درخواست گزار اپنے درست اور مکمل موبائل نمبر ضرور فراہم کریں۔	2.
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	سیاہ بال پوائنٹ سے بڑے حروف میں فارم پر کریں۔	3.
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	فوٹو کاپی کیے ہوئے فارم کو اپنے والدین / سرپرست کی رہنمائی اور مدد کے ساتھ فارم کو پُر کرنا شروع کریں۔	4.
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	اپنے والدین / سرپرست سے خاندان / گھرانے کی ماہانہ آمدنی اور اخراجات کے بارے میں مکمل آگاہی و معلومات حاصل کریں اور فارم پر درج کریں۔	5.
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	اس فارم پر حقیقی، جامع اور درست معلومات فراہم کریں بصورت دیگر موجودہ قوانین کے تحت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جاسکتی ہے۔	6.
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	واضح رہے کہ اس فارم میں آپ کے خاندان / گھرانے کے افراد کے کوائف کے ساتھ ساتھ آمدنی و اخراجات کی معلومات فراہم کرنا لازمی ہیں۔	7.
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	پوچھے گئے کوائف / سوالات جن پر درخواست گزار کا اطلاق نہیں ہوتا وہاں (-) لکھا جاسکتا ہے۔ تاہم اطلاق نہ ہونے کی مختصر وجہ لکھنا لازمی ہے۔	8.
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	اس بات کو یقینی بنانے کے Documents checklist میں مانگے گئے دستاویزات فارم کے ساتھ درست ترتیب سے اور مکمل منسلک ہوئے ہیں	9.
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	Documents checklist میں مانگے گئے دستاویزات جو آپ فراہم نہیں کر سکتے یا آپ پر انکا اطلاق نہیں ہوتا وہاں (-) لکھیں اور مختصر وجہ لازمی لکھیں	10.
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	اس بات کی ایک بار پھر وضاحت کی جاتی ہے کہ نامکمل فارم / بنادستاویزات کے فارم / بغیر دستخط کے فارم ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔	11.
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	تسلی کر لیں کہ کوئی کوائف ادھورے / نامکمل / غلط تو نہیں۔	12.
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	مکمل پر کیا ہوا فوٹو کاپی فارم کی مکمل معلومات اور کوائف کو اصل فارم / انٹرنیٹ سے حاصل کردہ فارم پر نقل کر لیں اور فوٹو کاپی فارم کو اپنے رکارڈ پر رکھیں۔	13.
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	اب اپنے فارم کو اپنے شعبہ کے چیئر پرسن سے صفحہ نمبر 10 پر تصدیق کروائیں۔	14.
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	تصدیق شدہ فارم کی مکمل معلومات اس لنک پر فراہم کریں واضح رہے کہ تصدیق شدہ فارم (ہارڈ کاپی) اور آن لائن لنک پر دی گئی معلومات میں کسی بھی قسم کا تضاد نہ ہو بصورت دیگر فارم مسترد کر دیا جاگا۔	15.
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	اوپر دیئے گئے لنک کے حروف حساس ہیں یعنی جیسا لکھا ہے بالکل ویسا ہی انٹرنیٹ براؤزر پر ٹائپ کریں ورنہ لنک غیر فعال یعنی ایکٹیو نہیں ہو گا۔	
<input type="checkbox"/>	نہیں	<input type="checkbox"/>	ہاں	آن لائن معلومات فراہم کرنے کے بعد مکمل تصدیق شدہ فارم بمعہ دستاویزات QEC OFFICE اپیلے کے آئے۔ جہاں آفس کا عملہ فراہم کردہ آن لائن معلومات سے آپ کے فارم اور دستاویزات کی جانچ کے بعد آپ کا فارم وصول کرے گا۔ تاہم نامکمل فارم ہرگز وصول نہیں کیئے جائیں گے۔	16.

Contact Details

Name:		Father's Name:	
Applicant's Mob#		Father's Mob #	
Applicant's CNIC#		Father/Guardian CNIC#	
Department:		Class:	
Admission Form # (for new admissions only)		Registration No.: (for already studying students)	

Note: QEC often contact the applicants for clarification/information. Therefore, applicant is required to write his/her contact numbers instead of other family members.

We, the undersigned, have read and understood above instructions and declare our acceptance thereof.

Signature of Applicant

Signature of Parents/Guardian



SCHOLARSHIP APPLICATION FORM

Scholarship is based on assessment of need and merit as well as availability of funds. Selection will be decided on the basis of information provided in this form and investigations for the authentication of provided information. Candidate may be required to appear for interview (s).

Providing False Information may result in one or all of the following:

- Cancellation of admission.
- Rustication from the university.
- Initiation of criminal proceedings.
- Disqualification for award of any future loan/scholarship.
- Refund of all the payment received and or a penalty equal to total scholarship amount.

MUST READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT THE SCHOLARSHIP APPLICATION FORM:

1. Read the instructions and application form carefully.
2. **First make a photocopy of this blank application form.**
3. Fill in the photocopy form using black ball point pen and write in **CAPITAL LETTERS only**.
4. Answer all questions. Fields should not be left blank. Those not applicable should be clearly marked "N/A" or "-" alongwith a brief reason thereof.
5. Start filling-in the information and particulars on the photocopied form and consult your parents/guardian for family financial reporting e.g. Income, expenditures etc.
6. Furnish factual, comprehensive and authentic information in the form.
7. Ensure that you have put in correct and valid information in photocopied application form.
8. Once above mentioned seven (7) steps completed, re-write all the information in the original / downloaded application form.
9. Ensure that you have attached all the required documents by putting a tick mark in checklist
10. Provide the same information as mentioned in your form (hard copy)
11. Provide Original/True copy of Pay/Salary slip of your Father or Guardian
12. Incase, your father/guardian is working in a private company, provide his/her original Income Certificate on Company's letter head duly stamped.
13. Incase, your father/guardian runs his/her own business, provide Income Certificate executed on RS.50/- Stamp Paper duly signed by (1) you, (2) your father/guardian, and verified by the (3) District Chairman of the concerned Union Council, & (4) Notarized by the Notary Public Officer.
14. Submit the duly filled-in original application form to QEC OFFICE in person.
15. Whenever in doubt or lost, seek help from the BBSUL QEC OFFICE.
16. **Affidavit Needs to be submitted after final selection of the candidate**

We, the undersigned, have read and understood above instructions and declare our acceptance thereof.

Signature of Applicant

Signature of Parents/Guardian



The following documents must be attached with the application form

Application Form Check List		
S#	Description	Tick the relevant
1	Copies of computerized NIC of	
	Applicant	<input type="checkbox"/>
	Father	<input type="checkbox"/>
	Mother	<input type="checkbox"/>
	Guardian	<input type="checkbox"/>
2	Copy of Death Certificate of Father/Mother/Guardian (if applicable)	<input type="checkbox"/>
3	Salary/Pay Slip or Income Certificate of	
	Father	<input type="checkbox"/>
	Mother (if applicable)	<input type="checkbox"/>
	Guardian (if applicable)	<input type="checkbox"/>
4	Copies of last six (06) month utility bills	
	Electricity	<input type="checkbox"/>
	Gas	<input type="checkbox"/>
	Telephone (if applicable)	<input type="checkbox"/>
	Water	<input type="checkbox"/>
5	Attested copy of rent agreement (if applicable)	<input type="checkbox"/>
6	Copies of last & latest fee payment receipts of self and siblings *	<input type="checkbox"/>
7	Copies of Medical bills/ expenditure related documents (if applicable)	<input type="checkbox"/>
8	Copies of previous scholarship(s) attained (if applicable)	<input type="checkbox"/>
9	Statement of Purpose	<input type="checkbox"/>
10	Copy of Matriculation Mark sheet and Certificate	<input type="checkbox"/>
11	Copy of Intermediate Mark sheet	<input type="checkbox"/>
12	Copies of Spring-2019 and Fall-2019 Marksheets	<input type="checkbox"/>
13	Two passport size photographs of Applicant	<input type="checkbox"/>

DO's:

- Submit the complete duly filled-in application in person to the QEC OFFICE, BBSUL before the deadline.
- Place documents in correct order as per above mentioned serial number (1 to 12)
- Put all amounts in Pak Rs.
- Do consult with parent(s)/guardian(s) for financial data accuracy & reliability
- For the information not present/relevant write in capital letters N/A or mark as (-)

DO NOT:

- Provide False/vague/ incomplete information.
- Overwrite/ scratch on the form. Send scholarship application form directly to HEC

We, the undersigned, hereby declare that above tick marked enclosed documents are genuine, true and best available as of below mentioned date.

Signature of Applicant

Date

Signature of Parents/Guardian



Name of the University: **BENAZIR BHUTTO SHAHEED UNIVERSITY, LYARI, KARACHI (BBSUL)**

Degree Title / Program: _____

Studying in Class: _____ Department: _____

1. Applicant's Name: _____ Gender: Male Female

2. Applicant CNIC# _____

3. _____ REGISTRATION NO. _____ درخواست گزار اپنا

4. Marital Status Single Married Divorced Widow

5. Age : _____ Domicile _____ Place of Birth: _____

6. Present Address _____

7. Permanent Address: _____

8. Are you currently working : Yes No

9. If answer is Yes to Section No. 8 complete the sections (9-11)

Designation: _____ Name of Employer /Company: _____

10. Total Monthly Applicant Gross Pay/Earning* in Pak Rs. _____

11. Total Monthly Applicant Net Pay/Earning ** in Pak Rs. _____

*Gross Pay/Earning (تنخواہ یا آمدنی جو ٹیکس یا دیگر کٹوتی سے پہلے ہو) ** Net Pay/Earning: تنخواہ یا آمدنی جو ٹیکس یا دیگر کٹوتی کے بعد ہو

12. Tel (Res.): _____ Mobile: _____ Email: _____

13. Total Family Members currently living with you: _____

(یہاں اپنے خاندان کے ان افراد کا اندراج کریں جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تاہم شادی شدہ بہن یا بھائی جو علیحدہ رہ رہے ہیں تو ان کا اندراج نہیں کریں۔)				
S #	Name of Family Member (s)	Relationship	Marital Status	Remarks**
1				
2				
3				
4				
5				
6				

14. Details of Family Members Earning (Take extra sheet if required):

(یہاں اپنے خاندان کے ان افراد کا اندراج کریں جو برسر روزگار ہو اور کماتے ہو)								
Section #	Column-1	Column-2	Column-3	Column-4	Column-5	Column-6	Column-7	
	Family Member Name	Relationship	Family Member occupation (Specify)	Organization Name	Designation	Monthly Gross Pay/Earning* (Before deduction of taxes, rent, etc.)	Monthly Net Pay/Earning** (After deduction of taxes, rent, etc.)	
1								
2								
3								
4								
15	Total Monthly Family Income (add self income, if applicable) Rs.							

16. Brothers/Sisters/Children/Family Members studying _____

(یہاں اپنے خاندان کے ان افراد کا اندراج کریں جو ساتھ رہ رہے ہو اور پڑھتے ہو)				
Section#	Name	Relation with applicant	Name & Address of Institute	Fee per month اگر فیس سالانہ / سہ ماہی بنیاد پر ادا کی جاتی ہو ایسی صورت میں فیس کی رقم کو 12 یا 6 سے تقسیم کر کے لکھیں۔
1				
2				
3				
4				
5				
6				
16A	Total Fees & Tuition Charges			

17. Father's Name: _____ Computerized N.I.C. No _____

18. Status: Alive Deceased

19. Professional status: Govt. / Pvt. Employee Retired Business Owner Daily Wages

20. Name of Company/Employer: _____

21. Tel (Off): _____ Mobile: _____

22. Occupation Type: _____ NTN _____

23. Designation & Grade (BPS/ SPS/PTC etc): _____ Gross Monthly Income: _____

*Gross Monthly Income = (آمدنی جو ٹیکس یادگیر کٹوتی سے پہلے ہو۔ تاہم روزانہ کی اجرت کو ماہانہ کی بنیاد پر جمع کر کے لکھیں)

24. Total Net Monthly Take Home Income (Salary/ Pension/ Others): _____

**Net Monthly Take Home Income = (آمدنی جو ٹیکس یادگیر کٹوتی کے بعد ہو۔ تاہم روزانہ کی اجرت کو ماہانہ کی بنیاد پر ضرب / جمع کر کے لکھیں)

25. Any Other Supporting Person (Mother/ Guardian/ Brother/ Sister/Family Relative/Guardian):

26. Name: _____ Relationship: _____

27. Occupation and Designation _____

28. Monthly Financial Support Available to Applicant in Pak Rs. _____

اگر درخواست گزار کو کسی رشتہ دار یا کسی واقف کار کی جانب سے مالی مدد / امداد میسر ہے وہ موصول ہونے والی ماہانہ رقم کا اندراج کریں۔ بصورت دیگر صرف (-) لکھیں

29. Asset Income (on monthly basis):

یہاں اثاثہ جات جیسا کہ بینک ڈپازٹ، مکان کا کرایہ وغیرہ سے وصول ہونے والی آمدنی کا اندراج کریں							
Section#	Column-1	Column-2	Column-3	Column-4	Column-5	Column-6	Column-7
	Income Source	Father	Mother	Spouse	Self	Other	Total یہاں کالم 2 تا 6 تک لکھی گئی آمدنی کو جمع کر کے لکھیں۔
1	Property Rent						
2	Land Lease						
3	Bank Deposits*						
4	Shares / Securities*						
5	Other (Specify)						
29A	Total						

30. Total Family Monthly Income:

یہاں خاندان (بہن + بھائی + والد + والدہ + درخواست گزار) کی انفرادی آمدنی کا اندراج کریں۔					
Section #	Column-1	Column-2	Column-3	Column-4	Column-5
	Family Member Name	Relationship	Monthly Income from Assets صفحہ نمبر 5 سیکشن نمبر 29 اے، کالم نمبر 7 پہ درج اثاثہ جات سے وصول ہونے والی ماہانہ آمدنی کو یہاں دوبارہ لکھیں	Monthly Gross Pay/Earning صفحہ نمبر 4 سیکشن نمبر 15، کالم نمبر 6 پہ درج جو ماہانہ آمدنی (بغیر کٹوتی) تحریر کی ہے وہ یہاں دوبارہ لکھیں	Monthly Net (Take home) Pay/Earning صفحہ نمبر 4 سیکشن نمبر 15، کالم نمبر 7 پہ درج جو ماہانہ آمدنی (کٹوتی کے بعد) تحریر کی ہے وہ یہاں دوبارہ لکھیں
1					
2					
3					
4					
5	Applicant Pay/Earning				
30-A	Total <u>Monthly</u> Income in Rs.				
30-B	Total <u>Annual</u> Income in Rs.				

31. FAMILY EXPENDITURES (سیکشن برائے خاندان کے اخراجات)

31A. Accommodation Expenditures (رہائش کے اخراجات)

Type: Bungalow Apartment /Flat Town House Village House

Status: Rented Self or Family owned Employer / Govt Owned

Rent Payment: Self Employer/Govt Others

House Plot Size in Sq. ft. _____ Covered Area in Sq. ft. _____

S #	Accommodation Location /Address	Number Of Bed Rooms		Number Of Air conditioners		Accommodation Monthly Rent ماہانہ کرایہ لکھیں۔ تاہم ذاتی یا خاندان کا مشطر کہ مکان ہو تو (-) لکھیں۔	Accommodation Annual Rent سالانہ کرایہ لکھیں۔ تاہم ذاتی یا خاندان کا مشطر کہ مکان ہو تو (-) لکھیں۔
		1-2		1-2			
		1-2	<input type="checkbox"/>	1-2	<input type="checkbox"/>		
		2-4	<input type="checkbox"/>	2-4	<input type="checkbox"/>		
		4-6	<input type="checkbox"/>	4-6	<input type="checkbox"/>		
		Above 6	<input type="checkbox"/>	Above 6	<input type="checkbox"/>		
31B	Total Accommodation Rental Expenditure						

Any other house/flat owned by the Parents/Guardian (if yes please specify with location and size)

درج بالا مکان / فلیٹ کے علاوہ اگر کوئی اور جائیداد ہے تو اس کا اندراج کریں بصورت دیگر (-) لکھیں۔

32. Utilities Expenditures: درج ذیل سیکشن میں یوٹیلیٹی بلز کی مد میں ادا کی گئی رقم کا اندراج کریں۔

Bill	Six Months Billed Amount for last 6 months (ششماہی بلز کی ادائیگی برائے سال)						Total (1+2+3+4+5+6) چھ مہینے کے بلز کو جمع کرنے کے بعد حاصل رقم کا اندراج اس کالم میں کریں۔
	October 2020 (1)	November 2020 (2)	December 2020 (3)	January 2021 (4)	February 2021 (5)	March 2021 (6)	
Electricity							
Gas							
Telephone							
Water							
Mobile (Cards)							
Total							

Average Calculation of Utilities Expenditures

Column-A	Column-B	Column-C	Column-D
Bill	Total چھ ماہ کے بلز کی مجموعی رقم جو اوپر ٹیبیل پہ کالم نمبر 7 پر فراہم کی ہے یہاں ہر یوٹیلیٹی کی مد میں دوبارہ لکھیں۔	Average Monthly Utilities Expenditure Calculation بائیں کالم میں دی گئی مجموعی رقم لکھیں اور چھ (6) سے تقسیم (÷) کریں اور حاصل ہونے والی رقم کو دائیں جانب دیئے گئے کالم پہ لکھیں۔ Average Bill = Total bill ÷ 6	Mention Value Received for Average Bill بائیں کالم میں کی گئی کیلکولیشن سے حاصل ہونے والی ایوریج رقم کا درست اندراج کریں۔
Electricity		÷6	
Gas		÷6	
Telephone		÷6	
Water		÷6	
Mobile (Cards)		÷6	
Total of Average Bills کالم ڈی میں درج رقم کو جمع کر کے لکھیں			

33. Monthly Medical Expenditures: (ماہانہ ادویات کے اخراجات) _____

Total Family Expenditures							
	Column-1	Column-2	Column-3	Column-4	Column-5	Column-6	Column-7
Section#	Education Expenditure صفحہ نمبر 5 سیکشن نمبر 16 سے پہ درج مجموعی تعلیمی اخراجات یہاں دوبارہ لکھیں	Accommodation Expenditure صفحہ نمبر 6 لائن نمبر 31 ب پہ درج مجموعی رہائشی اخراجات یہاں دوبارہ لکھیں	Utilities Expenditure اسی صفحہ پہ کالم نمبر ڈی پہ درج ٹوٹل ایوریج بلز کی رقم کو یہاں دوبارہ لکھیں	Medical Expenditure اسی صفحہ پہ لائن نمبر 33 پہ درج مجموعی ادویات کے اخراجات یہاں دوبارہ لکھیں	Misc. Expenditure (Food + Transportation etc.) گھر کے دیگر اخراجات جیسا کہ راشن، ٹرانسپورٹ وغیرہ اس کالم میں جمع کر کے لکھیں۔	Total Monthly Expenditure یہاں کالم 1 سے 5 تک لکھے گئے اخراجات کو جمع کر کے لکھیں۔	Total Annual Expenditure یہاں کالم 6 میں لکھے گئے اخراجات کو 12 سے ضرب (x) کر کے لکھیں۔
34							

	Column-1	Column-2
Section#	Description	Amount in Pak Rupees
30-A	Total Monthly Income صفحہ نمبر 6، سیکشن نمبر 30 اے، کالم نمبر 5 پر درج کی گئی ٹوٹل ماہانہ آمدنی کو دائیں جانب کالم نمبر 2 میں لکھیں۔	
34	Total Monthly Expenditure صفحہ نمبر 7، سیکشن نمبر 34، کالم نمبر 6 پر درج کی گئی ٹوٹل ماہانہ اخراجات کو دائیں جانب کالم نمبر 2 میں لکھیں۔	
35	Net Monthly Disposable Income* = Total Monthly Income (Minus) Total Monthly Expenditure ماہانہ بچت / خسارہ (کمی) کا حساب لگانے کیلئے سیکشن 30 اے کی رقم کو سیکشن 34 سے مانس (یعنی منہا) کریں۔ حاصل رقم ماہانہ نیٹ ڈسپوزبل انکم ہوگی۔ واضح رہے کہ نیٹ ڈسپوزبل انکم منفی (-) ہونے کی صورت میں منفی کا نشان (-) لازمی لگائیں۔	

	Column-1	Column-2
Section#	Description	Amount in Pak Rupees
30-B	Total Annual Income صفحہ نمبر 6، سیکشن نمبر 30 بی، کالم نمبر 5 پر درج کی گئی ٹوٹل سالانہ آمدنی کو دائیں جانب کالم نمبر 2 میں لکھیں۔	
34.	Total Annual Expenditure صفحہ نمبر 7، سیکشن نمبر 34، کالم نمبر 7 پر درج کی گئی ٹوٹل سالانہ اخراجات کو دائیں جانب کالم نمبر 2 میں لکھیں۔	
36 (30B – 34)	Net Annual Disposable Income* = Total Annual Income (Minus) Total Annual Expenditure سالانہ بچت / خسارہ (کمی) کا حساب لگانے کیلئے سیکشن 30 بی کی رقم کو سیکشن 34 سے مانس (یعنی منہا) کریں۔ حاصل رقم سالانہ نیٹ ڈسپوزبل انکم ہوگی۔ واضح رہے کہ نیٹ ڈسپوزبل انکم منفی (-) ہونے کی صورت میں منفی کا نشان (-) لازمی لگائیں۔	

* If the monthly / Annual Disposable Income is negative, kindly explain the reasons for the gap, and the arrangements through which the differential gap is met by the family

اگر ماہانہ ڈسپوزبل انکم منفی ہے تو یہاں وضاحت کریں کہ ماہانہ خسارہ کی وجوہات کیا ہیں اور آپ کے خاندان کا یہ خسارہ کیسے پورا ہوتا ہے۔

سیکشن برائے اثاثہ جات موجودہ مالیت کے ساتھ (Assets (with current market value)

37. Does the family own any Transport? Yes No

If yes kindly fill the relevant details

S #	Transport Type (Car/ Motor cycle/ Others*)	Make /Model	Engine Capacity (CC)	Registration No.	Ownership Period
1					
2					

* Others: include tractor, rickshaw, bi-cycle, motorcycle rickshaw, carriage pick, truck etc.

38. Number of Cattle(s) (with kind) موبیشیوں کی تعداد اور قسم لکھیں۔ _____

39. Area and location of Land(s)/Plot(s) owned (ذاتی زمین یا پلاٹ کا رقبہ اور پتہ لکھیں) _____

40. Assets worth (Current Market Value in Pak. Rs.) اثاثہ جات کی موجودہ مالیت، ملکیت اور قیمت

S #	Assets Title	Father	Mother	Spouse	Self	Guardian	Total
1	House						
2	Business						
3	Land & Building						
4	Bank Balance						
5	Stocks/Prize bond						
6	Others/ Cattle(s)						
41.	Total						

42. Loan taken for Applicant Education (سیکشن برائے قرضہ جات جو درخواست گزار کی تعلیم کیلئے لیا گیا ہو)

* Family/ Friend Loan (Specify details of loan taken and relationship with the relative / friend)

دوست احباب سے لیا گیا قرضہ (جو درخواست گزار کی تعلیم کیلئے لیا گیا ہو) اور ان کی تفصیل بیان کریں

43. Specify any source of financing other than loan (قرضہ کے علاوہ درخواست گزار کی تعلیم کیلئے کیا گیا مالی بندوبست کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو بیان کریں بصورت دیگر (-) لکھیں)

44. How were the admission /first semester charges paid? (داخلہ / پہلے سیمیسٹر کی فیس کس طرح ادا کی گئی، کیا سیونگت سے / قرض لے کے وغیرہ)

45. Applicants educational record:

Level of Study	Name and Location of Institute	Per Month Fee	To- From month/ yr.	Division/ GPA/	%age / CGPA
Bachelors					
Intermediate					
Secondary					

46. Per month fee/ tuition charges of the institution last attended _____

اگر فیس سالانہ / سہ ماہی بنیاد پر ادا کی جاتی ہو ایسی صورت میں فیس کی رقم کو 12 یا 6 سے تقسیم کر کے لکھیں۔

47. Have you ever got any other Scholarships: Yes _____ No _____

(If yes fill the details of scholarships & attach documentary proof of the scholarships)

S #	Name of Institute	Scholarship Name	Total Scholarship Amount	Total Scholarship Period	Class / Level at which Scholarship was granted
1					
2					

